

Maulana Azad National Urdu University
B.Com : IV Semester Examination - May - 2019
BBCM401CCT - Corporate Accounting

پرچہ: کارپوریٹ اکاؤنٹنگ

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/خالی جگہ پُر کرنا/مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ (10 x 1 = 10 Marks)

2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ (5 x 6 = 30 Marks)

3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (3 x 10 = 30 Marks)

حصہ اول

سوال نمبر : 1

- (i) حصص کے قابض (owner) کو _____ کہتے ہیں۔
- (ii) P/E Ratio کو معلوم کرنے کا ضابطہ _____ ہے۔
- (iii) Non-Operating Expenses کی مثالیں _____ ہیں۔
- (iv) Debenture _____ Liability ہے۔
- (v) Cash flow کے Activities _____ ہیں۔

صحیح یا غلط جواب کی نشاندہی کیجئے:

- (vi) کیش فلوا سٹیٹمنٹ کو IAS-3 کے تحت تیار کیا جاتا ہے۔ ()
- (vii) Accounting Standard کو ICAI جاری کرتی ہے۔ ()
- (viii) Bad Debt کا مطلب Non-operating income ہے۔ ()
- (ix) Amalgamation اور Merger میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ()
- (x) فرنیچر پر نقصان ایک Liability ہے۔ ()

حصہ دوم

(2) ذیل کے تفصیلات کی مدد سے Cash from Operating Activity under Indirect Method محسوب کیجیے۔

Profit and Loss Account

| تفصیلات | رقم | تفصیلات | رقم |
|------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| To Bad debt | 10,000 | By Balance b/d | 1,00,000 |
| To Depreciation | 8,000 | By profit on sale of land | 12,000 |
| To Rent | 4,000 | By Dividend | 2,400 |
| To Travelling Expenses | 12,000 | | |
| To Advertisements | 5,500 | | |
| To loss on sale of machinery | 2,500 | | |
| To Preliminary Expenses | 3,800 | | |
| To Tax Provision | 10,000 | | |
| To Profit | 58,600 | | |
| | 1,14,400 | | 1,14,400 |

(3) ذیل کے تفصیلات کی مدد سے Capatalisation طریقہ کے تحت ساکھ (Goodwill) محسوب کیجیے۔۔

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 60,000 روپے | = | مشنری |
| 12,000 روپے | = | فرنیچر |
| 2,00,000 روپے | = | عمارت |
| 20,000 روپے | = | قرضدار (debtors) |
| 50,000 روپے | = | ہاتھ میں نقدی |
| 30,000 روپے | = | بنک میں نقدی |
| 1,00,000 روپے | = | موٹر کار |
| 15,000 روپے | = | لیں دار (creditors) |
| 1,00,000 روپے | = | ڈپنچرس |

Future Maintanable Profit = 3,00,000 روپے

نارمل شرح منافع (Normal Rate of Returns) 15%

(4) ذیل کی تفصیلات کی مدد سے تجارتی نفع و نقصان کھاتہ (Trading and Profit & Loss Account) تیار کیجیے۔

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| 70,000 روپے | = | خرید | 3,40,000 روپے | = | فروخت |
| 10,000 روپے | = | خرید واپسی | 20,000 روپے | = | فروخت واپسی |
| 70,000 روپے | = | تنخواہ (Salary) | 8,000 روپے | = | اندرونی بار برداری (Carriage inward) |
| 20,000 روپے | = | کرایہ | 30,000 روپے | = | اجرت (wages) |
| 15,000 روپے | = | حاصل ڈیویڈنڈ (Dividened recieved) | 10,000 روپے | = | حاصل سود (Interest recieved) |
| 10,000 روپے | = | فیکٹری کے مصارف | 5,000 روپے | = | Bad debt |
| 30,000 روپے | = | افتتاحی ذخیرہ (Opening stocks) | 50,000 روپے | = | اختتامی ذخیرے (Closing stocks) |

(5) ذیل کی تفصیلات کی مدد سے Cost of Goods Sold محسوب کیجیے۔

فروخت = 25,00,000 روپے

خرید = 15,00,000 روپے

ذخیرہ = 3,50,000 روپے 01-01-17

ذخیرہ = 2,00,000 روپے 31-12-17

اندرونی بار برداری (Carriage Inward) = 5,000 روپے

کسٹم ڈیوٹی (Custom Duty) = 10,000 روپے

راست پیداواری مصارف (Direct Expenses) = 1,20,000 روپے

بجلی ایندھن راست (Power and Fuel) = 70,000 روپے

فیکٹری کے مصارف (Factory Expenses) = 60,000 روپے

Bad Debt = 7,000 روپے

تشہیر (Advertisement) = 5,000 روپے

(6) حصص اور ڈپنٹس کی تعریف کیجیے۔

(7) ساکھ (Goodwill) کی تعریف کر کے اس پر اثر انداز (Factor affecting) عوامل کو بیان کیجیے۔

(8) کیش فلو سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(9) اثاثے و ذمہ داریوں (Assets and liabilities) کو مثالوں کے ذریعہ وضاحت کیجیے۔

حصہ سوم

(10) ذیل میں دیئے گئے آزمائشی گوشوارہ (Trial Balance) کی مدد سے سال ختم 31 مارچ 2014 کے لیے اختتامی کھاتے

(Final Account) تیار کیجیے۔

Trial Balance

| تفصیلات | L/F | Debit | Credit |
|---|-----|----------|----------|
| Purchase and Returns | | 1,25,500 | 2,500 |
| Sales and Returns | | 3,50,000 | 2,000 |
| مزدوری (Wages) | | 40,000 | - |
| نقدی Cash | | 20,000 | - |
| بنک (Bank) | | 13,000 | - |
| سود (Interest) | | 4,000 | 8,000 |
| Capital and Drawing | | 10,000 | 3,00,000 |
| عمارت (Building) | | 1,00,000 | |
| چھوٹ (Discount) | | 4,000 | 3,000 |
| دین داروں اور لین دار (Creditors and Debtors) | | 40,000 | 20,000 |
| تنخواہ (Salary) | | 50,000 | |
| کرایہ (Rent) | | 5,000 | 3,000 |
| Bills recieveable and payable | | 1,00,000 | 50,000 |

| تفصیلات | L/F | Debit | Credit |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Motor Vehicle | | 20,000 | |
| عام اخراجات (General Expenses) | | 3,000 | |
| برے قرضے (Bad Debts) | | 2,000 | |
| تجارتی اخراجات (Trade Expenses) | | 3,000 | |
| افتتاحی ذخیرہ (Opening Stock) | | 40,000 | |
| اینڈھن (Power and Fuel) | | 2,000 | |
| پانی گیس (Water Gas) | | 4,000 | |
| بیمہ (Insurance) | | 2,000 | |
| پٹینٹ (Patents) | | 50,000 | |
| مشنری (Machines) | | 1,00,000 | |
| فرنیچر (Furniture) | | 50,000 | |
| ڈپنچر | | | 7,00,000 |
| long term loan | | | 49,000 |
| | | 11,37,500 | 11,37,500 |

مطابقتیں (Adjustments)

- (i) اختتامی ذخیرہ (Closing Stock) 1,00,000 روپے
- (ii) دین دار پر (Debtor) 10% مشکوک قرضوں (Doubtful debt) کی گنجائش رکھی جائے
- (iii) عمارت پر 5% مشنری اور فرنیچر پر 10% فرسودگی (Depreciation) عائد کی گئی۔
- (iv) تنخواہ کے 5,000 روپے اور اجرت (Wages) کے 8,000 روپے ادا شدنی ہے۔

(11) ذیل میں دیئے گئے مواد کی مدد سے Pro-Rata Allotment محسوب کیجیے:

| درخواست حاصل (Application recieved) | حصص جاری کردہ (Share issue) | کمپنی کا نام |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| X=10,000, Y=12,000, Z=2,000 | 20,000 | A |
| M=16,000, N=14,000, O=6,000 | 30,000 | B |
| P=22,000, Q=24,000, R=8,000 | 40,000 | C |

(12) دیئے گئے مواد کی مدد سے Average Profit Method اور Super Profit Method Capitalisation Method کے تحت کاروبار کے ساتھ Goodwill کو محسوب کیجیے۔

اوسط منافع (Average Profit) 5,00,000 روپے ' No. of Year Purchase 3 سال ' نارمل منافع 4,00,000 روپے ' Normal Rate of Return = 20% ' مشنری 50,000 روپے ' عمارت 2,00,000 روپے ' ہاتھ میں نقدی 20,000 روپے ' بنک میں نقدی 30,000 روپے ' لین دار (Debtor) 70,000 روپے ' ڈپنچرس 1,00,000 روپے ' Future Maintanable Profit 3,00,000 روپے۔

(13) کمپنی کی تعریف کرتے ہوئے مثالوں کے ذریعہ کمپنی کے اقسام کی وضاحت کیجیے۔

(14) کیش فلو کے Activities کو مثالوں کے ذریعہ تفصیل بتائیے۔